

حکومت پاکستان
ریونیو ڈویژن
فیڈرل بورڈ آف ریونیو

اسلام آباد، مورخہ 16 جولائی 2026

نوٹیفکیشن
(انکم ٹیکس)

SRO 1129(1)/2026 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 (XLIX آف 2001) کی دفعہ 183 کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنے سابقہ نوٹیفکیشن نمبر S.R.O. 799(I)/2026 مورخہ 4 مئی 2026 کی منسوخی کے بعد، نیز کامیابہ کے فیصلے برائے کیس نمبر Prime-11/4/19/2026-497 مورخہ 15.06.2026 کی پیروی میں، وفاقی حکومت اس امر پر خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کارپوریشن لمیٹڈ کی موجودہ انکم ٹیکس واجبات کے خلاف قابل ادائیگی ڈیفالٹ سرچارج اور جرمانوں کی رقم، جو کالم (3) میں درج ہے، کو درج ذیل تفصیل کے مطابق مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے:

نمبر شمار	ٹیکس کی مدت	رقم
(1)	(2)	(3)
I	ودہولڈنگ ٹیکس (متخواہ کے علاوہ) اپریل سے دسمبر 2024	263,821,746
2	ایڈوانس انکم ٹیکس (مئی 2024 سے جون 2025)	4,028,821,290
	کل	4,292,643,036

مندرجہ بالا موجودہ ٹیکس واجبات حتمی تعین سے مشروط ہوں گے، تاکہ PIACL کی نجکاری کے عمل کو کامیاب بولی دہندہ کے ساتھ مکمل کیا جاسکے، نیز بولی سے متعلق دستاویزات پر بروقت عمل درآمد اور ان میں درج شرائط کی تکمیل کو یقینی بنایا جاسکے۔

یہ استثنیٰ اس شرط کے ساتھ ہے کہ PIACL کی مذکورہ بالا موجودہ انکم ٹیکس واجبات ایک سالہ رعایتی مدت (Grace Period) کے بعد چار سال کی مدت میں، برابر سالانہ اقساط کے ذریعے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ادا کی جائیں گی۔ یہ ادائیگیاں "فرسٹ کمپلیشن (First Completion)" کے بعد شروع ہوں گی، جیسا کہ حکومت پاکستان اور کامیاب بولی دہندگان کے مابین طے پانے والے شیئر پرجیز اینڈ سبسکرپشن ایگریمنٹ (Share Purchase and Subscription Agreement) میں بیان کیا گیا ہے۔

[No.1(5)R&S/2026]

(سجاد تسلیم اعظم)

ممبر (ان لینڈ ریونیو پالیسی) / ایڈیشنل سیکریٹری